

13973 - قسطوں میں فروخت کرنے کے لیے قیمت بڑھانا جائز ہے

سوال

کیا سامان کی قیمت بڑھا کر قسطوں میں فروخت کرنا جائز ہے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

بيع التقسيط میں فروخت کردہ چیز فوری طور پر دی جاتی ہے اور اس کی مکمل یا کچھ قیمت معلوم مدت اور قسطوں میں ادا کی جاتی ہے۔

اس کا حکم جاننے کی اہمیت:

بيع التقسيط ان مسائل میں سے ہے اس دور میں جن کا حکم معلوم کرنے کا اہتمام کرنا ضروری ہے اس لیے کہ اس وقت دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ مسئلہ بہت سی امتوں اور افراد میں پھیل چکا ہے۔

کمپنیاں اور ادارے سامان بنانے اور باہر سے لانے والوں سے قسطوں میں خریداری کرتے اور اپنے گاہکوں کو بھی قسطوں میں فروخت کرتے ہیں، مثلاً گاڑیاں، جائداد، اور مختلف قسم کے آلات وغیرہ۔

اور بنك وغيره بھی اسے پھیلانے کا باعث بنے ہیں، اس طرح کہ بنك سامان نقد خرید کر اپنے ایجنٹوں کو ادھار قیمت (قسطوں پر) فروخت کرتے ہیں۔

قسطوں میں فروخت کرنے حکم :

بيع النسئۃ کے جواز میں نص وارد ہے، اور یہ قیمت کو مؤخر کرنے والی بیع کا نام ہے۔

بخاری اور مسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ادھار غلہ خریدا اور اس کے پاس اپنی لوہے کی درعہ رہن رکھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر (2068) صحیح مسلم حدیث نمبر (1603) .

یہ حدیث قیمت ادھار کرنے کی بیع پر دلالت کرتی ہے، اور قسطوں کی بیع بھی قیمت ادھار کرنے کی بیع ہے، اس میں

غایت یہ ہے کہ اس میں قیمت کی قسطیں اور ہر قسط کی مدت مقرر ہوتی ہے۔

اور حکم شرعی میں اس کا کوئی فرق نہیں کہ ادھار کردہ قیمت کی مدت ایک ہو یا کئی ایک مدتیں مقرر کی ہوں۔

عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں اور کہنے لگی: میں نے اپنے مالکوں سے نو اوقیہ میں کتابت کی ہے اور ہر برس ایک اوقیہ دینا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر (2168)۔

اور یہ حدیث ادھار قسطوں میں قیمت کی ادائیگی کے جواز کی دلیل ہے۔

اگرچہ قیمت ادھار کرنے میں جواز کی نصوص وارد ہیں لیکن اس کی کوئی دلیل اور نص نہیں ملتی کہ ادھار کی وجہ سے قیمت بھی زیادہ کرنی جائز ہے۔

اسی لیے علماء اکرام اس مسئلہ کے حکم میں اختلاف کرتے ہیں:

بہت کم علماء اس کی حرمت کے قائل ہیں اس لیے کہ یہ سود ہے۔

ان کا کہنا ہے کہ: اس لیے کہ اس میں قیمت زیادہ ہے اور یہ زیادہ قیمت مدت کے عوض میں ہے اور یہی سود ہے۔

اور جمہور علماء کرام جن میں آئمہ اربعہ شامل ہیں اس کے جواز کے قائل ہیں۔

ذیل میں اس کے جواز کی عبارات پیش کی جاتی ہیں:

حنفی مذهب میں ہے کہ :

(بعض اوقات مدت کے عوض قیمت بڑھ جاتی ہے) دیکھیں بدائع الصنائع (5 / 187) ۔

مالکی مذهب :

(وقت کے لیے قیمت میں سے کچھ مقدار رکھی گئی ہے) بدایۃ المجتہد (2 / 108) ۔

شافعی مذهب :

(نقد پانچ ادھار میں چھ کے برابر ہے) الوجیز للغزالی (1 / 85)

حنبلی مذهب :

(مدت قیمت میں سے کچھ حصہ لیتی ہے) فتاویٰ ابن تیمیہ (29 / 499)۔

اس پر انہوں نے کتاب وسنت سے دلائل بھی لیے ہیں ان میں بعض ذیل میں پیش کیے جاتے ہیں:

1 - فرمان باري تعاليٰ ہے:

اللہ تعاليٰ نے بيع حلال كي ہے البقرة (275) .

آیت عموم کے اعتبار سے بيع كي سب صورتوں کو شامل ہے اور اس میں مدت کے عوض میں قيمت زيادہ کرنا داخل ہے .

2 - اور ايك مقام پر اللہ تعاليٰ نے اس طرح فرمایا:

اے ایمان والو تم آپس میں ايك دوسرے کا مال باطل طريقہ سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ تمہاري آپس كي رضامندي سے خریدوفروخت ہو النساء (29) .

یہ آیت بھی عموم کے اعتبار سے طرفین كي رضامندي كي صورت میں بيع کے جواز پر دلالت کرتی ہے، لہذا جب خریدار اور تاجر مدت کے عوض قيمت بڑھانے میں اتفاق کرلیں تو بيع صحيح ہوگی .

3 - امام بخاري رحمہ اللہ تعاليٰ نے ابن عباس رضي اللہ تعاليٰ عنہما سے روایت کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلي اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہ کھجوروں میں دو اور تین برس كي بيع سلف کرتے تھے، تو رسول کریم صلي اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(جس نے بھی کسی چیز كي بيع سلف كي وہ معلوم ماپ اور تول اور مدت معلومہ میں بيع کرے) صحيح بخاري حديث نمبر (2086) .

بيع سلف نسا اور اجماعا جائز ہے، اور یہ بيع التقسيط کے مشابہ ہے، علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ اس كي حکمت یہ ہے کہ خریدار اس میں سستي قيمت کا فائدہ حاصل کرتا ہے اور فروخت کرنے والا مال پہلے حاصل کر کے نفع حاصل کرتا ہے، اور یہ دليل ہے کہ خریدوفروخت میں مدت کا قيمت میں حصہ ہے، اور خریدوفروخت میں اس کا کوئی حرج نہیں. دیکھیں: المغني (6 / 385) .

4 - ادھار کے عوض میں قيمت زيادہ کرنا مسلمانوں کا عمل بن چکا ہے اور اس پر کوئی اعتراض نہیں، لہذا اس صورت كي بيع پر یہ اجماع كي مانند ہے .

شيخ ابن باز رحمہ اللہ تعاليٰ سے مدت کے عوض میں قيمت زيادہ کرنے کے حکم کے متعلق سوال کیا گیا تو ان کا جواب تھا:

اس معاملہ میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ نقد کی بیع ادھار کے علاوہ ہے، اور آج تک مسلمان اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں، اس کے جواز پر ان کی جانب سے یہ اجماع کی مانند ہی ہے، اور بعض شاذ اہل علم نے مدت کے عوض قیمت زیادہ کرنا منع قرار دیا ہے اور ان کا گمان ہے کہ یہ سود ہے، اس قول کی کوئی وجہ نہیں بنتی، اور نہ ہی سود ہے، اس لیے کہ تاجر نے جب ادھار سامان فروخت کیا تو وہ مدت کی وجہ قیمت زیادہ کر کے نفع حاصل کرنے پر متفق ہوا اور خریدار بھی مہلت اور مدت کی بنا پر قیمت زیادہ دینے پر متفق ہوا کیونکہ وہ نقد قیمت ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو اس طرح دونوں فریق اس معاملہ سے نفع حاصل کرتے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے جو اس کے جواز پر دلالت کرتا ہے وہ یہ کہ نبی کریم سے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لشکر تیار کرنے کا حکم دیا، تو وہ ادھار میں ایک اونٹ کے بدلے دو اونٹ خریدتے تھے، پھر یہ معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مندرجہ ذیل فرمان میں بھی داخل ہوتا ہے:

اے ایمان والو! جب تم آپس میں میعاد مقرر تک کے لیے قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو البقرة (282) .

اور یہ معاملہ بھی جائز قرضوں میں سے اور مذکورہ آیت میں داخل ہے اور یہ بیع سلم کی جنس میں سے ہی ہے .. اھ دیکھیں: فتاویٰ اسلامیة (2 / 331) .

مزید تفصیل کے لیے دیکھیں: کتاب " بیع التقسیت " تالیف ڈاکٹر رفیق یونس المصري .

واللہ اعلم .